



سوال

(228) غیر سودی بینک میں رقم رکھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج کل حالات بہت ہو رہے ہیں اور دیت کا ادا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن ہم ساتھیوں نے مل کر کچھ رقوم جمع کی ہیں اور انہیں بطور امانت بینک الراجحی میں رکھ دیا ہے، اس پر کچھ عرصہ بھی گزکا ہے اور جب سال ہو جاتا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا اس بینک میں ہم اپنی یہ رقوم بیٹھنے دیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بینک الراجحی میں ان رقوم کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق یہ بینک ان رقوم کو سود کے لئے استعمال نہیں کرتا۔

مقالات و فتاویٰ ابن باز

صفحہ 321

محدث فتویٰ